

107544 - بہرہ فرقہ کے لوگ اور ان کے عقائد اور ان سے شادی بیاہ کا حکم

سوال

میرا سوال میری بیوی اور میرے متعلق ہے، ہمارا تعلق "بہرہ" فرقہ سے ہے یہ شیعہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور انٹرنیٹ پر "مومنین ڈاٹ آرگو" اور "معلومات ڈاٹ کام" کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے، میں اس فرقہ کی طرف منسوب تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں صحیح دین پر آچکا ہوں میں نے یہ شادی اپنے والدین کی خاطر کی کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ایک اچھی لڑکی ہے، اور شادی کے بعد ہر دینی مسئلہ میں میری اطاعت کریگی۔ میں نے قرآن و سنت سے بیان کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ابھی تک وہ اس کا انکار کر رہی ہے، ہمارا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ: یہ عورت - اور عمومی طور پر یہ فرقہ - علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگتے اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔

میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں: اے اللہ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے شفا عطا کر، یا میری مدد فرما، تو اس طرح حسین اللہ کے پاس جا کر اس کے لیے شفا طلب کرتے ہیں، تو اس طرح شفا مل جاتی ہے، یا پھر مطلوبہ مدد حاصل ہو جاتی ہے۔

میری بیوی کی اس سے قبل عادت تھی وہ کہا کرتی ہے مدد یا حسین، یا پھر حسین مجھے شفا دو، یا مجھے بچا لو، میرے اعتقاد کے مطابق تو یہ شرك ہے، لیکن جب میں نے اس پر یہ واضح کیا کہ ایسا کرنا تو شرك ہے اس طرح وہ ایسا کرنے سے رڪ گئی، لیکن ابھی بھی وہ آئمہ کرام سے وسیلہ کی قائل ہے اور ان کے وسیلہ سے مانگتی ہے، اور بدعات و خرافات پر عمل کرتی ہے، کیا وسیلہ کی یہ قسم بھی شرك شمار ہوتی ہے؟

کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کریں؟ جو کچھ وسیلہ وغیرہ جیسے فعل کرتی ہے کیا وہ شرك ہے تو کیا اس سے میری شادی صحیح ہے، اور کیا شرك کفر ہے، اور کیا کافرہ عورت سے شادی کرنا جائز ہے؟

ان کے امام اور بڑے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جھکا جائے، اور ان کی قدم بوسی کی جائے، اور قبروں پا جایا جائے، اور فوت شدگان کے سامنے بھی رکوع کیا جائے، اور ان کا اعتقاد ہے کہ یہ لوگ انہیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائینگے، اور یہ لوگ اذان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیتے ہیں، نماز میں تشہد کے دوران بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک بدعات پر عمل پیرا ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور اس کے علاوہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی سب و شتم اور لعن طعن کرتے ہیں۔

ان کا کہنا ہے: انہوں نے فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تکلیف و اذیت دی تھی، میں نے جو کچھ اوپر بیان

کیا ہے وہ بہت زیادہ خرافات میں سے بہت ہی قلیل سا ہے، اور اب تک ان لوگوں کو حج پر جانے اور اپنے طریقہ پر نماز ادا کرنے کی اجازت حال ہے، اور مکہ میں بدعات و خرافات کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس سوال کا جتنی جلدی ہو جواب دیں، کیونکہ اگر اس عورت سے میری شادی جائز نہیں تو میں زنا کر رہا ہوں! اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور مومنوں کو شرک اور ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

الموسوعة الميسرة في الاديان و المذاهب و الاحزاب المعاصرة میں بہرہ کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے:

یہ فرقہ اسماعیلی مستعلی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے جو کہ امام مستعلی اور اس کے بعد الامر اور اس کے بعد اس کے بیٹے طیب کی امامت کے قائل ہیں، اسی لیے انہیں الطیبة بھی کہا جاتا ہے، یہ برصغیر پاک و ہند اور یمن کے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، انہوں نے سیاست ترک کر کے تجارت اختیار کی اور ہندوستان پہنچے اور ہندوؤں سے مسلمان ہونے والے افراد سے میل جول کے بعد یہ بہرہ کے نام سے معروف ہوئے ہیں، اور بہرہ قدیم ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تاجر ہے۔

- امام طیب (525ھ) میں پردہ پوش ہوا، اور اس کی نسل سے اب تک کسی بھی امام کے متعلق کچھ معروف نہیں، حتیٰ کہ ان کے نام تک غیر معروف ہیں، اور بہرہ فرقہ کے علماء کرام خود بھی ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔

- بہرہ میں دو فرقے ہیں:

1 - بہرہ داودیہ: یہ قطب شاہ داود کی طرف منسوب ہیں اور برصغیر پاک میں دسویں صدی ہجری سے پائے جاتے ہیں، ان کا مبلغ بمبئی میں رہتا ہے .

2 - بہرہ سلیمانیہ: یہ سلیمان بن حسن کی طرف منسوب ہیں، اور ان کا مرکز آج تک یمن میں ہی پایا جاتا ہے۔ انتہی

دیکھیں: الموسوعة الميسرة في الاديان و المذاهب و الاحزاب المعاصرة (2 / 389) .

دوم:

بہرہ کئی قسم کے منحرف عقائد پر مشتمل ہے اور یہ باطنی ہیں جو کہ شیعہ فرقہ میں سے ہیں، لیکن ان کا اپنے اماموں کے متعلق غلو رافضی شیعہ سے بھی بڑھ کر ہے، ذیل میں ہم ان کے چند ایک عقائد پیش کرتے ہیں:

1 - یہ مسلمانوں کی مساجد میں نماز ادا نہیں کرتے۔

- عقیدہ میں ظاہری طور پر یہ سارے معتدل اسلامی فرقوں کے عقائد کے مشابہ ہیں۔

3 - ان کا باطن کچھ اور ہے، یہ نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ نماز اپنے امام اسماعیلی کے لیے ہوتی ہے جو طیب بن آمر کی اولاد سے ہے۔

4 - باقی مسلمانوں کی طرح یہ بھی مکہ مکرمہ حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کعبہ امام کا نشان ہے۔

انتہی

دیکھیں: الموسوعة الميسرة (2 / 390)۔

ان کا اپنے اماموں کے بارہ میں غلو کرنے کی کئی ایک صورتیں ہیں: اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور سب مرد و عورت اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ چومتے ہیں، ہم ذیل میں اس سلسلہ میں مستقل فتویٰ کمیٹی کے جاردی کردہ بعض فتاویٰ جات ذکر کرتے ہیں:

1 - مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے دریافت کیا گیا:

بہرہ فرقہ کے بڑے علماء اس پر مصر ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے اور جب بھی ان کی زیارت کی جائے تو ان کے سامنے سجدہ کیا جائے، کیا ایسا کوئی عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین کے دور میں پایا گیا ہے۔ ابھی کچھ ایام قبل پاکستان کے ایک معروف اخبار (6 / 10 / 1977 م) میں ایک بہرہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے شخص کی تصویر چھپی ہے جو اپنے ایک بڑے عالم دین کو سجدہ کر رہا ہے، آپ کی اطلاع کے لیے ہم اس کی فوٹو کاپی بھی ساتھ ارسال کر رہے ہیں برائے مہربانی اس کے متعلق معلومات فراہم کریں۔

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا:

" سجدہ عبادات کی ان اقسام میں شامل ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص کی ہیں، اور یہ ایک قرب ہے جس کے لیے بندہ اپنے پروردگار اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرتا ہے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو النحل (36) .

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور آپ سے قبل بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو الانبیاء (25) .

اور ایک مقام پر ارشاد ربانی اس طرح ہے:

اور دن رات اور سورج و چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے حم السجدة (37) .

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سورج و چاند کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ دونوں تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور مخلوق ہیں، اس لیے یہ نہ تو سجدہ کے مستحق ہیں، اور نہ ہی کسی اور عبادت کے مستحق ہیں.

بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ ان دونوں یعنی سورج و چاند کو بھی اور دوسری اشیاء کو بھی پیدا کرنے والا ہے صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام بلکہ یہ شرک کہلاتا ہے، لہذا کسی بھی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا صحیح نہیں.

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اور ہنس رہے ہو؟ اور روتے نہیں؟ (بلکہ) تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو، اور (اسی کی) عبادت کرو ﴿النجم﴾ (59 - 62) .

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی اکیلے کو سجدہ کیا جائے، پھر اللہ عزوجل نے عموم بیان کرتے ہوئے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ وحدہ کی لیے کریں اور عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک مت کریں.

چنانچہ جب بہرہ فرقہ کے لوگوں کی حالت یہ ہے جیسا کہ سوال میں بیان ہوئی ہے: تو ان کا اپنے بزرگوں اور بڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا ان کی عبادت ہے اور انہیں الہ بنانا ہے، اور انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے، یا پھر اللہ کے علاوہ انہیں معبود بنانا ہے، اور ان بزرگوں اور بڑوں کا اپنے فرقے کے لوگوں کو ایسا کرنے کا حکم دینا یا پھر ایسا کرنے پر ان بزرگوں اور بڑوں کا راضی ہونا اسے طاغوت بنا دیتا ہے جو اس کی بنفیس نفیس

عبادت کی دعوت ہے، اس لیے دونوں فریق یعنی تابع اور متبوع دوسرے معنوں میں جو سجدہ کر رہا ہے اور جو بزرگ سجدہ کروا رہا ہے دونوں ہی اللہ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر کے ملت اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔

الشیخ عبد العزیز بن باز.

الشیخ عبد الرزاق عفیفی.

الشیخ عبد اللہ بن غدیان.

الشیخ عبد اللہ بن قعود.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (2 / 382 - 383).

اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء سے درج ذیل سوال بھی دریافت کیا گیا:

سب عورتیں اس کے ہاتھ اور پاؤں چومتی ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے کہ عورت کسی غیر محرم عالم دین کا ہاتھ چھوئیں، یہ عمل کسی بڑے عالم دین کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس عالم دین کے خاندان کے سارے افراد کے ساتھ یہی عمل کیا جاتا ہے ؟

کمیٹی کے علماء کا جواب تھا:

" اول:

سوال میں جو یہ بیان ہوا ہے کہ بہرہ فرقہ کی عورتیں اپنے بڑے اور بزرگ عالم کے ہاتھ پاؤں چومتی ہیں، بلکہ عورتیں اس بزرگ کے خاندان کے سارے افراد کی قدم بوسی کرتی ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی خلفاء راشدین سے ایسا ثابت ہے کہ عورتیں ان کی قدم بوسی کرتی ہوں؛ کیونکہ ایسا کرنے میں مخلوق کی تعظیم میں غلو ہوتا ہے جو کہ شرک کا ذریعہ بنتا ہے۔

دوم:

کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی عورت کے جسم کو چھونا جائز ہے؛ کیونکہ اس میں فتنہ و فساد اور خرابی پائی جاتی ہے؛ اور اس لیے بھی کہ یہ اس کا ذریعہ ہے جو اس سے بھی بڑا شر اور برائی یعنی زنا اور زنا کے وسائل ہیں۔

اور پھر صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والی عورتوں کا اس آیت سے امتحان لیا کرتے تھے:

﴿ اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مومن عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور چوری نہ کریں گی، اور زنا کاری نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے ﴿الممتحنۃ (12)﴾ .

عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا:

" مومن عورتوں میں سے جو کوئی عورت بھی ان شروط کا اقرار کرتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے: " میں نے تجھ سے بیعت کر لی " یعنی کلام کرتے، اللہ کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس طرح بیعت کیا کرتے تھے " میں نے تجھ سے اس پر بیعت لی "

متفق علیہ ، یعنی اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت کرتے وقت مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صرف کلام کے ساتھ ہی بیعت کرتے حالانکہ مصافحہ کا تقاضا بھی موجود تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عصمت بھی مسلمہ تھی، اور آپ کی بنسبت خرابی و فتنہ کا بھی کوئی خطرہ نہ تھا لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے وقت عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اس لیے آپ کی امت کو تو بالاولیٰ اجنبی عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ یہ تو ان کے لیے حرام ہے، چہ جائیکہ عورتیں اس شخص اور اس کے خاندان کے باقی افراد کے ہاتھ پاؤں چومیں، صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" میں عورتوں میں سے مصافحہ نہیں کرتا "

اسے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ یقیناً تمہارے لیے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بہترین نمونہ ہے ﴿الاحزاب (21)﴾ .

الشيخ عبد العزيز بن باز.

الشيخ عبد الرزاق عفيفي.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ عبد الله بن قعود.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء (2 / 383 - 385).

کمیٹی سے درج ذیل سوال بھی دریافت کیا گیا:

بہرہ فرقہ کے بڑے عالم کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور متبعین کی نیابت میں روح اور ایمان (یعنی دینی عقائد) کا کلی مالک ہے، اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟

کمیٹی کے علماء کا جواب تھا:

" اگر بہرہ فرقہ کا بڑا عالم وہ دعویٰ کرتا ہے جو سوال میں بیان کیا گیا ہے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، چاہے اس کا روح اور ایمان کا مالک ہونے کے دعویٰ سے مراد یہ ہو کہ ایمان اور روح اس کے ہاتھ میں ہیں وہ اسے جس طرح چاہے پھیر سکتا ہے، اور دلوں کو وہ جس طرح چاہے پھیر کر انہیں ایمان کی ہدایت دے یا پھر انہیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دے، کیونکہ اس کا مالک تو صرف اللہ عزوجل ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں؛ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿چنانچہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے﴾ الانعام (125) .

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ کچھ اس طرح ہے:

﴿ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے تو وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی راہنما اور کارساز ملنا ناممکن ہے﴾ الکہف (17) .

اس کے علاوہ اس موضوع کی اور بھی بہت آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دلوں کو ہدایت و گمراہی کی طرف پھیرتا ہے اور کوئی نہیں، اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" بندوں کے دل اللہ رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہے انہیں پھیر دیتا ہے " صحیح مسلم.

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے:

" يا مقلب القلوب ، ثبّت قلبي على دينك "

اے دلوں کو پلٹانے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ.

اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.

یا بہرہ فرقہ کے اس سردار اور بڑے نے روح اور ایمان کا کلی مالک ہونے سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ اپنی جماعت اور افراد کے ایمان کا نائب ہے کہ صرف اس کا ایمان ہی کافی ہے اور انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں، اور انہیں اس کا ثواب بھی حاصل ہو گا، اور وہ اس طرح عذاب سے بھی نجات حاصل کر لیں گے چاہے وہ برے عمل بھی کرتے رہے اور جرائم کے مرتکب ٹھہریں، یہ اعتقاد تو قرآن مجید میں بیان کردہ عقیدہ کے خلاف ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ جو کوئی نیکی کرے تو اس کا اجر اس کے لیے ہے، اور جو وہ برائی کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے ﴾ البقرة (286).

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی کچھ اس طرح ہے:

﴿ ہر شخص اپنے اعمال کا گروہ ہے ﴾ الطور (21).

اور ایک جگہ اللہ رب العزت کا فرمان اس طرح ہے:

﴿ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہ ہے، مگر دائیں ہاتھ والے، کہ وہ باغات و بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے سوال کریں گے، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ ﴾ المدثر (38 - 42).

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ جوئی کوئی بھی برا عمل کریگا اسے اس کی سزا دی جائیگی، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں پائیگا اور نہ ہی کوئی مدد گار، اور جو کوئی نیک و صالح علم کریگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائیگا ﴾ النساء (123 - 124).

اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے:

﴿ اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش و سعی کی ہو گی ﴾ النجم (39) .

اور ایک جگہ فرمایا:

﴿ اور کوئی بھی جان کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہ اٹھائیگا، اور اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائیگا چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ﴾ فاطر (18) .

اس کے علاوہ بھی اس موضوع کے متعلق بہت ساری آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائیگا چاہے وہ برا عمل ہو یا اچھا، اور اس لیے بھی کہ صحیح حدیث میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں ﴾ الشعراء (214) .

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا:

" اے قریش کی جماعت - یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ کہا - تم اپنے آپ کو بچا لو میں اللہ سے تمہارے کچھ کام نہیں آؤنگا، اے عباس بن عبدالمطلب میں تجھے اللہ سے نہیں بچا سکوں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ میں اللہ سے تیرے کچھ کام نہیں آسکوں گا، اے فاطمہ بنت محمد تم میرے مال سے جو چاہو مانگ لو میں اللہ سے تیرے کچھ کام نہیں آؤنگا "

متفق علیہ.

الشیخ عبد العزیز بن باز.

الشیخ عبد الرزاق عفیفی.

الشیخ عبد اللہ بن غدیان.

الشیخ عبد اللہ بن قعود.

دیکھیں: فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (2 / 385 - 387) .

اور یہ بھی دریافت کیا گیا:

اس کا دعویٰ ہے کہ وہ وقف کردہ املاک کا مالک کلی ہے، اور سب صدقات کا اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے سکتا، اور وہ زمین پر اللہ ہے، اسی طرح ان کے بڑے اور بزرگ طاہر سیف الدین طاہر کا بمبئی ہائی کورٹ میں عدالت کے سامنے بھی دعویٰ تھا، اور اسے اپنے پیروکاروں پر پوری قدرت ہے ؟

کمیٹی کا جواب تھا:

سوال میں جو بہرہ فرقے کے بڑے کا دعویٰ بیان کیا گیا ہے کہ " وہ سب وقف کردہ املاک کا مالک کلی ہے، اور وہ سب صدقات پر کوئی حساب نہیں دیگا، اور وہ زمین پر اللہ ہے "

یہ سب دعویٰ باطل ہیں، چاہے اس کی جانب سے ہوں یا کسی اور کی جانب سے صادر ہوئے ہوں: پہلا دعویٰ اس لیے باطل ہے کہ:

وقف کردہ بعینہ چیز کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا فائدہ اور نفع ملکیت ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جس کے لیے وقف کیا گیا ہو اس کا فائدہ اس کو دیا جاتا ہے کسی اور کو نہیں، اس لیے ان بہرہ کا بڑا اور سردار کسی بھی بعینہ وقف کردہ چیز کا مالک نہیں، اور نہ ہی وہ اس کے فائدے کا مالک ہے صرف اس کے فائدہ کے ملکیت اسی چیز کی حاصل ہو گی جو صرف اس کے لیے وقف کی گئی ہو اور وہ اس کا اہل بھی ہو۔

رہا دوسرا دعویٰ کہ: اس کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا: یہ اس لیے باطل ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال پر اس کا محاسبہ ہو گا کہ وہ صدقات و خیرات وغیرہ میں کس طرح تصرف کرتا رہا، یہ محاسبہ کتاب و سنت کی نص اور اجماع امت سے ثابت شدہ ہے۔

رہا تیسرا دعویٰ کہ: وہ زمین میں اللہ ہے: یہ صریحاً کفر ہے، اور جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرے وہ طاغوت ہے جو اپنے آپ کو الہ بنانے اور اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، اور اس چیز کا بطلان تو ایسا ہے کہ یہ دین کی ضروری معلوم اشیاء میں شامل ہوتی ہیں اور ہر ایک کو اس کا علم ہے۔

الشیخ عبد العزیز بن باز۔

الشیخ عبد الرزاق عقیفی۔

الشیخ عبد اللہ بن غدیان۔

الشیخ عبد اللہ بن قعود۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (2 / 387 - 388)۔

کمیٹی کے علماء کرام سے یہ بھی دریافت کیا گیا:

اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسے اس طرح کے اعمال پر اعتراض کرنے والوں سے سوشل بائیکاٹ کرنے کا حق حاصل ہے؟

کمیٹی کے علماء کرام کا جواب تھا:

" اگر تو بہر فرقے کے بڑے علماء کا یہی طریقہ اور اوصاف ہیں جو اوپر کئی ایک سوالات میں بیان ہوئے ہیں: تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے ارتکاب کردہ شرکیہ اعمال پر اعتراض کرنے والوں سے براءت کا اظہار کرے، بلکہ اسے تو ان کی نصیحت قبول کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو معبود و الہ بنانے سے باز آ جانا چاہیے، اور ایسے دعوؤں سے اجتناب کرنا چاہیے جو اللہ عزوجل کے لیے مخصوص ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور اس سے متصف نہیں ہو سکتا: یعنی الوہیت، اور روح و دلوں کا مالک ہونا یہ سب اللہ عزوجل کے خصائص میں شامل ہے، اور اس کا اپنے ارد گرد افراد کو اپنی عبادت کی دعوت دینا، اور اس کے اور اس کے خاندان کے افراد میں غلو کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری سے جھکنا اور گڑگڑانے کی دعوت دینا بھی جائز نہیں۔

بلکہ اس بڑے کے شرک و کفر پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی گمراہی و ضلالت اور کفر و شرک سے باز نہیں آتا اور ان کی نصیحت قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتا ہے تو وہ اس شخص اور اس کے پیروکاروں اور اس طرح کے دوسرے طاغوتوں اور طاغوت کی عبادت کرنے والوں سے براءت کا اظہار کریں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اور تم سب اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ﴾ آل عمران (103) .

اور ایک مقام پر اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿ یقیناً تمہارے لیے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے ﴾ الاحزاب (21) .

اور ایک مقام پر ارشاد ربانی کچھ اس طرح ہے:

﴿ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث کیا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو ﴾ النحل (36) .

اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ رہے وہ خوش خبری کے مستحق ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، یہی ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اور یہی عقلمند ہیں ﴿الزمر (17 - 18)﴾ .

اور ایک مقام پر فرمایا:

﴿ تمہارے لیے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں اور براءت کا اظہار کرتے ہیں، ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی ﴿الممتحنة (4)﴾ .

حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ (اور عمدہ پیروی ہے خاص کر) ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، اور اسی کی حمد و ثنا ہے ﴿الممتحنة (6)﴾ .

الشیخ عبد العزیز بن باز.

الشیخ عبد الرزاق عفی فیہ.

الشیخ عبد اللہ بن غدیان.

الشیخ عبد اللہ بن قعود.

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (2 / 388 - 389) .

اور آخر میں مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کا کہنا ہے:

" اگر تو بہرہ فرقے کے بڑے اور رئیس اور اس کے پیروکاروں کا فی الواقع ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے سوالات میں بیان کیا ہے تو وہ لوگ کافر ہیں، اور وہ دین اسلام کے اصول و قواعد پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے راہنمائی لیتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان سے کوئی بعید نہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور

اس کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لانے والوں کو تنگ کریں جس طرح ہر امت کے کفار نے اللہ کی جانب سے ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے رسولوں کے ساتھ کیا اور انہیں ہر طرح سے تنگ و پریشان کیا۔

الشیخ عبد العزیز بن باز۔

الشیخ عبد الرزاق عفیفی۔

الشیخ عبد اللہ بن غدیان۔

الشیخ عبد اللہ بن قعود۔

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (2 / 390)۔

بہرہ فرقے کے متعلق مزید تفصیلی معلومات کے حصول کے لیے خادم حسین الہی بخش کی کتاب " برصغیر میں مسلمان معاشرے کے انحراف پر مغربی فکر کے اثرات " کا مطالعہ ضرور کریں۔

سوم:

ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے سب مسلمانوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ: بہرہ فرقے کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اسی طرح ان کے مردوں سے اپنی عورتوں کی شادی کرنا بھی حرام ہے، اور یہ فرقہ باطنی ہے جو اسلامی اصولوں کی مخالفت کرتا اور اسلامی بنیادوں کو گراتا ہے۔

اور آپ کو بیوی کو چاہیے کہ یا تو وہ اس فرقہ سے مکمل طور پر واضح براءت کا اظہار کرے، اور جن فاسد عقائد پر وہ ہیں ان کی وجہ سے وہ انہیں کافر گردانے، وگرنہ آپ کا اس کے ساتھ رہنا حلال نہیں، اور آپ کا اس سے نکاح فسخ ہو گا، اور آپ کو اس کے کفر و ارتداد کا علم ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ رہنا اور اس سے جماع کرنا زنا شمار ہو گا، یہ یہودیہ اور عیسائی عورت کی طرح نہیں؛ کیونکہ وہ تو اہل کتاب میں شامل ہوتی ہیں، لیکن بہرہ فرقہ تو باطنی اور کافر ہے۔

واللہ اعلم .